

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 4th Week, 4th Day	Syllabus: Unit # 10: Uses of electromagnets	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×2=2)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. A loudspeaker is mainly composed of: \_\_\_\_\_ کا بنا ہوتا ہے: لاؤڈ سپیکر زیادہ تر \_\_\_\_\_

(a) Permanent magnet	مستقل میگنیٹ	(b) Vibrating cone	واہرینگ کون
(c) Coil	کوائل	(d) All of these	یہ تمام

2. Electromagnets attract the \_\_\_\_\_ objects. \_\_\_\_\_ کے اجسام کو کشش کرتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹس

(a) Silver	سلور	(b) Copper	کاپر	(c) Iron	آئرن	(d) Carbon	کاربن
------------	------	------------	------	----------	------	------------	-------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is the function of hammer in electric bell? برقی گھنٹی میں ہتھوڑی کا کام کیا ہے؟

(ii) How is sound produced? آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

Q.No.3. Write a detailed note on speaker. (4)

سپیکر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

---



---



---



---



---



---



---



---

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 4th Week, 4th Day	Syllabus: Unit # 10: Uses of electromagnets	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×2=2)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. A loudspeaker is mainly composed of: \_\_\_\_\_ کا بنا ہوتا ہے: لاؤڈ سپیکر زیادہ تر \_\_\_\_\_

(a) Permanent magnet	مستقل میگنیٹ	(b) Vibrating cone	واہرینگ کون
(c) Coil	کوائل	(d) All of these	یہ تمام

2. Electromagnets attract the \_\_\_\_\_ objects. \_\_\_\_\_ کے اجسام کو کشش کرتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹس

(a) Silver	سلور	(b) Copper	کاپر	(c) Iron	آئرن	(d) Carbon	کاربن
------------	------	------------	------	----------	------	------------	-------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is the function of hammer in electric bell? برقی گھنٹی میں ہتھوڑی کا کام کیا ہے؟

(ii) How is sound produced? آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

Q.No.3. Write a detailed note on speaker. (4)

سپیکر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

---



---



---



---



---



---



---



---